

نیو یارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن
(NEW YORK CITY HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION) [Urdu]

مجوزہ قانون پر عوامی سماعت اور تاثرات پیش کرنے کے موقع کا نوٹس

ہم کیا تجویز کر رہے ہیں؟ نیو یارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن (Human Resources Administration, HRA) "غذا کی اور ہنگامی غذا فراہم کنندگان کے لیے انتظامی فنڈز کی تقسیم" کے عنوان سے موجودہ اصول کو فسخ کرنے اور اس کی جگہ "ہنگامی غذائی اعانت پروگرام" کے عنوان سے ایک نئے اصول کی تجویز پیش کرتا ہے۔ نیا اصول HRA کو غذا کی اور ہنگامی غذا فراہم کنندگان کے لیے انتظامی فنڈز کی تفویض میں وسیع تر لچک فراہم کرے گا، جس کے ذریعے HRA کمیونٹی کی غذائی ضرورتیں پیدا ہونے پر مؤثر طریقے سے جواب دینے کا اہل ہو پائے گا۔

سماعت کب اور کہاں ہے؟ مجوزہ قانون کے بارے میں HRA ایک عوامی سماعت کا انعقاد کرے گا۔ عوامی سماعت فاصلاتی طور پر 12 اگست 2022 کو صبح 10 بجے Zoom کے ذریعے ہوگی۔ سماعت میں شرکت کے خواہشمند افراد شامل ہو سکتے ہیں بذریعہ:

Zoom (ویڈیو اور آڈیو):

<https://us02web.zoom.us/j/85469930699?pwd=-zCjaaw6YqJfZHeu51DXAuITkbCHqg.1>

یا www.zoom.us پر جائیں، "میٹنگ میں شامل ہوں" پر کلک کریں اور میٹنگ ID 854 6993 0699 (پاس کوڈ: DSS) درج کریں

فون (صرف آڈیو):

US 1 646 876 9923 (نیو یارک)
میٹنگ ID: 0699 6993 854

میں مجوزہ قانون پر کس طرح تبصرہ کروں؟ کوئی بھی شخص مندرجہ ذیل طریقے سے مجوزہ اصول پر تبصرہ کر سکتا ہے:

- **ویب سائٹ۔** آپ تبصرے HRA کے پاس NYC کے اصولوں کی معرفت ویب سائٹ پر <http://rules.cityofnewyork.us> پر جمع کرا سکتے ہیں۔
- **ای میل۔** آپ اپنے تبصرے NYCRules@hra.nyc.gov پر ای میل کر سکتے ہیں۔ براہ کرم موضوع کی سطر میں ہنگامی غذائی اعانت پروگرام یا "EFAP" شامل کریں۔
- **ڈاک۔** آپ اپنے تاثرات اس پتے پر بذریعہ ڈاک ارسال کر سکتے ہیں:

HRA Rules
c/o Office of Legal Affairs
Greenwich Street, 38th Floor
New York, NY 10007

براہ کرم اس بات کی وضاحت کر دیں کہ آپ EFAP کے اصول پر تبصرہ کر رہے ہیں۔

• **فیکس۔** آپ اپنے تبصرے 917-639-0413 پر فیکس کر سکتے ہیں۔ براہ کرم موضوع کی سطر میں "EFAP" شامل کریں۔

• **سماعت میں بول کر۔** آپ سماعت میں بولنے کے لیے 12 اگست 2022 کو یا اس سے پہلے 929-221-7220 پر کال کر کے یا NYCRules@hra.nyc.gov پر ای میل کر کے سائن اپ کر سکتے ہیں۔ مقررین کو اسی ترتیب سے بلایا جائے گا جس ترتیب میں انہوں نے سائن اپ کیا تھا اور وہ تین منٹ تک بول سکیں گے۔

کیا تبصرے جمع کرانے کی کوئی آخری تاریخ ہے؟ تبصرے جمع کرانے کی آخری تاریخ 12 اگست 2022 نصف شب ہے۔ تبصرے، بشمول وہ جو ڈاک کے ذریعہ بھیجے گئے، HRA کو 12 اگست 2022 تک یا اس سے پہلے موصول ہو جانے چاہئیں۔

سماعت میں شرکت کے لیے اگر مجھے مدد کی ضرورت پڑی تو میں کیا کروں؟ اگر آپ کو سماعت میں شرکت کرنے کے لیے ترجمانی کی خدمت یا مناسب سہولت درکار ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ NYCRules@HRA.nyc.gov پر ای میل کر کے یا 929-221-7220 پر ٹیلیفون کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ براہ کرم ہمیں پیشگی طور پر بتا دیں تاکہ انتظامات کے لئے خاطر خواہ وقت مل جائے۔ براہ کرم 5 اگست 2022 تک ہمیں بتا دیں۔

کیا میں مجوزہ اصولوں پر کیے گئے تبصروں کا جائزہ لے سکتا ہوں؟ آپ ویب سائٹ <http://rules.cityofnewyork.us> پر جا کر مجوزہ اصولوں پر آن لائن کیے گئے تبصروں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ سماعت کے بعد جلد ہی، آن لائن جمع کئے گئے تمام تبصروں کی نقول، تمام تحریری تبصروں کی نقول، اور مجوزہ اصول کے متعلق زبانی تبصروں کا خلاصہ HRA کی ویب سائٹ پر عوام کے لیے دستیاب ہوگا۔

کیا چیز HRA کو یہ اصول بنانے کی اجازت دیتی ہے؟ سٹی کے منشور کے سیکشنز 603 اور 1043 اور نیو یارک کے سماجی خدمات قانون کا سیکشن 34 HRA کو یہ مجوزہ اصول مرتب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

مجھے HRA کے اصول کہاں سے مل سکتے ہیں؟ HRA کے اصول سٹی آف نیو یارک کے رولز کے ٹائٹل 68 میں ہیں۔

کیا مجوزہ اصول کو HRA کے انضباطی ایجنڈے میں شامل کیا گیا تھا؟ نہیں۔ جب HRA نے اپنا بالکل حالیہ انضباطی ایجنڈا جاری کیا تھا تو اس اصول پر دھیان نہیں دیا گیا تھا۔

اصول سازی کا عمل کن اصولوں کے تابع ہے؟ HRA کو اصول بنانے یا ان میں تبدیلی کرتے وقت سٹی کے منشور کے سیکشن 1043 کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ نوٹس سٹی کے منشور کے سیکشن 1043 کے تقاضوں کے مطابق مرتب کیا گیا ہے۔

مجوزہ اصول کی بنیاد اور مقصد کی وضاحت

نیو یارک سٹی محکمہ برائے سماجی خدمات/ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن (Department of Social Services/Human Resources Administration, DSS/HRA) سٹی آف نیو یارک کے رولز کے ٹائٹل 68 کے باب 4 کو، فی الحال جس کا عنوان "غذا کی اور ہنگامی غذا فراہم کنندگان کے لیے انتظامی فنڈز کی تقسیم" ہے فسخ کرنے اور اس کو "ہنگامی غذائی اعانت پروگرام" (EFAP،Emergency Food Assistance Program) کے عنوان سے ایک نئے اصول سے بدلنے کی تجویز پیش کرتا ہے۔ مجوزہ اصول HRA کو غذا کی اور ہنگامی غذا فراہم کنندگان کے لیے انتظامی فنڈز کی تفویض میں وسیع تر لچک فراہم کرتا ہے، جو HRA کو کمیونٹی کی غذائی ضرورتیں پیدا ہونے پر مؤثر طریقے سے جواب دینے کا اہل بنائے گا۔

دیگر تبدیلیوں کے ساتھ، مجوزہ اصول ہنگامی غذا فراہم کنندگان کو فنڈنگ تفویض کرنے کے HRA کے موجودہ طریقے کی جگہ لیتا ہے۔ موجودہ طریقہ کلی طور پر پچھلے سال میں زیر خدمت افراد کی تعداد پر انحصار کرتا ہے۔ نیا طریقہ متعدد عوامل، بشمول مخصوص جغرافیائی علاقوں میں یا مخصوص آبادیوں میں حالیہ غذائی ضرورتیں زیر غور لاتا ہے۔ اس طریقے سے فنڈنگ کی تفویض کا طریقہ اپ ڈیٹ کر کے، HRA پروگرام سے متعلق اور فنڈنگ کی ایسی تبدیلیاں کر پائے گا جو فراہم کنند کے فیڈ بیک اور سٹی میں ہنگامی غذائی ضرورتوں کے تیزی سے تبدیل ہوتے ارضی منظر کے تئیں اثر پذیر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ، مجوزہ اصول غیر منفعتی تنظیموں کو بنیادی ڈھانچہ اور عمل آوری سے متعلق لاگتوں کے مدنظر باز ادائیگی کرنے اور EFAP فنڈنگ طلب کرنے والے نئے ہنگامی غذائی پروگرامز تخلیق کرنے یا موجودہ ہنگامی غذائی پروگراموں کی پہنچ بڑھانے کی HRA کی اہلیت کو باضابطہ شکل دیتا ہے۔

اس اصول کی تجویز نیو یارک سٹی کے منشور کے سیکشنز 603 اور 1043 اور نیو یارک کے سماجی خدمات قانون کے سیکشن 34 کے تحت DSS کے کمشنر کے اختیار کے تحت کی گئی۔

مجوزہ اصول

سیکشن ایک۔ سٹی آف نیو یارک کے رولز کے ٹائٹل 68 کے باب 4 کو، جس کا تعلق غذا کی اور ہنگامی غذا فراہم کنندگان کو انتظامی فنڈز کی تقسیم سے ہے، فسخ کر دیا گیا ہے اور ایک نیا باب 4 شامل کیا گیا ہے جسے درج ذیل طریقے سے پڑھا جائے:

باب 4:

ہنگامی غذائی اعانت پروگرام

§ 4-01 تعریفات۔ اس باب کے مقاصد کے لیے، درج ذیل اصطلاحات کا مفہوم حسب ذیل ہو گا:

(a) "کمشنر" کا مطلب DSS کا کمشنر یا ان کا قائم مقام فرد ہے۔

(b) "DOHMH" کا مطلب نیو یارک سٹی محکمہ صحت و ذہنی حفظان صحت ہے

(c) "EFAP" کا مطلب اس باب میں بیان کردہ ہنگامی غذائی اعانت پروگرام ہے۔

(d) "ہنگامی غذائی اعانت پروگرام" کا مطلب وہ پروگرام ہے جو کسی ساکت مقام سے یا موبائل یونٹ سے لوگوں کو ان کے پاس ناکافی آمدنی کی بنیاد پر غذا کی ان کی فوری ضرورت پوری کرنے کے لیے غذا فراہم کرتا ہے۔ "ہنگامی غذائی اعانت پروگرام" سائٹ پر یا سائٹ سے الگ مصرف میں لانے کے لیے کھانے یا سائٹ سے دور تیار کرنے اور مصرف میں لانے کے لیے کھانے کی شکل میں غذا فراہم کر سکتا ہے۔

(e) "غذا فراہم کنندہ" یا "فراہم کنندہ" کا مطلب ہنگامی غذائی پروگرام چلانے والی کوئی تنظیم ہے۔

(f) "HRA" کا مطلب نیو یارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن ہے۔

§ 4-02 پروگرام کا بندوبست۔

HRA موجودہ غذا فراہم کنندگان کو غذا سیلائی کر کے ان کی امداد کرنے کے لیے اس باب کے بموجب ایک ہنگامی غذائی اعانت پروگرام کا بندوبست کرے گا۔ فنڈنگ کی دستیابی کی شرط کے ساتھ، HRA غذا فراہم کنندگان کو EFAP کے ذریعے سیلائی کردہ غذا کی تقسیم سے وابستہ لاگتوں کے مدنظر غذا فراہم کنندگان کو باز ادائیگی کر سکتا ہے اور غذا فراہم کنندگان کو یا EFAP غذا فراہم کنندہ بننے کا ارادہ رکھنے والی دیگر غیر منفعتی تنظیموں کو فنڈ دستیاب کرا سکتا ہے، تاکہ ان کی عمل آوری کی گنجائش تشکیل دینے یا اسے وسیع کرنے، خدمات وسیع کرنے، یا بصورت دیگر مزید لوگوں کو ہنگامی غذا فراہم کرنے میں ان کی مدد کی جائے۔

§ 03-4 EFAP مشاورتی گروپ۔

EFAP پروگرام کا منتظم نیو یارک سٹی میں ہنگامی غذائی پروگراموں کے عمل میں فعال یا اس سے تعلق رکھنے والے ممبروں پر مشتمل EFAP کا ایک مشاورتی گروپ منتخب کرے گا۔ EFAP کے مشاورتی گروپ کے ممبران معاوضہ کے بغیر، رضاکارانہ بنیاد پر، اور EFAP پروگرام کے منتظم کی خوشنودی سے خدمت انجام دیں گے۔ EFAP کا مشاورتی گروپ کم از کم ہر چھ ماہ پر مجتمع ہوگا اور ہنگامی غذائی اعانت پروگرام کے نفاذ پر، بشمول پروگرام کی طرف سے فراہم کردہ اور غذائی اٹمز اور اس سے متعلق تقسیم کی خدمات کے سلسلے میں HRA کو مشورہ دے گا۔

§ 04-4 غذا فراہم کنندہ کی تصدیق۔

(a) HRA) ایسے مصدقہ EFAP کے غذا فراہم کنندگان کی ایک فہرست برقرار رکھے گا جو اس باب کے تحت HRA سے غذائی تفویضات موصول کرنے کے اہل ہیں۔

(b) EFAP کے غذا فراہم کنندہ کے بطور تصدیق کروانے کے لیے، فراہم کنندہ پر HRA کے پاس ایک درخواست جمع کروانا اور درج ذیل تقاضے پورا کرنا لازم ہے:

- (1) فراہم کنندہ لازماً انٹرنل ریونیو کوڈ (3)(c) 501 §) کے تحت ٹیکس سے مستثنیٰ حیثیت رکھتا ہو۔
- (2) اگر فراہم کنندہ براہ راست صارفین کو انفرادی پورشن سروس کے مدنظر غذا فراہم کرتا ہو، چاہے غذا سائٹ پر یا سائٹ سے الگ مصرف میں لائی جاتی ہو تو، فراہم کنندہ کے پاس لازماً، اس طرح کی سروس کی اجازت دیتے ہوئے ایک درست DOHMH فوڈ اسٹبلشمنٹ پرمٹ ہونا ضروری ہے۔
- (3) فراہم کنندہ پر HRA کے پاس پروگرام کے تقاضے جیسا کہ سیکشن 4-05 میں بیان کیا گیا ہے پورا کرنے کی اپنی اہلیت ثابت کرنا ضروری ہے، بشمول یہ ثابت کر کے کہ دیگر مآخذ سے اسے جو غذا موصول ہوتی ہے اس کے سلسلے میں، حسب اطلاق، سیکشن 4-05 کی ذیلی تقسیم (a) سے لے کر (p) تک میں بیان کردہ تقاضے پہلے سے ہی پورا کرتا ہے۔

(c) EFAP کا غذا فراہم کنندہ بننے کے لیے درخواستیں HRA کے متعین کردہ وقت پر اور انداز میں دائر کی جائیں۔ درخواست کے عمل میں HRA کی جانب سے سائٹ کا دورہ شامل ہوگا۔ HRA اپنی صوابدید پر متعین جغرافیائی علاقہ یا متعین آبادی کی خدمت انجام دینے والے فراہم کنندگان کے لیے درخواست کا عمل کھول یا بند کر سکتا ہے۔

(d) اگر فراہم کنندہ کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو، فراہم کنندہ کے ایک معاہدے پر وہ فراہم کنندہ دستخط کرے گا جس میں فراہم کنندہ سیکشن 4-05 میں حسب مذکور پروگرام کے تقاضوں کی تعمیل کرنے پر اتفاق کرتا ہے۔ منظور شدہ فراہم کنندہ کا دستخط کردہ فراہم کنندہ کا معاہدہ موصول ہو جائے پر، HRA فراہم کنندہ کی تصدیق EFAP کے غذا فراہم کنندہ کے بطور کرے گا۔

§ 05-4 پروگرام کے تقاضے۔

فراہم کنندہ پر لازم ہے کہ پروگرام کے درج ذیل تقاضوں سے اتفاق اور ان کی تعمیل کرے:

(a) نسل، رنگ، قومی بنیاد، مذہبی الحاق/مسلک/جنس، معذوری، عمر، پردیسی کی حالت یا شہریت کی حالت، از داوچی یا پارٹنرشپ کی حالت، حمل، سابق فوجی کی حالت، صنفی شناخت، جنسی رجحان، یا قابل اطلاق قانون کے تحت کسی دیگر تحفظ یافتہ درجہ کا لحاظ کیے بغیر غذا آزادانہ طور پر تقسیم کرنا ضروری ہے۔

(b) غذا لازماً عوام الناس کے لیے دستیاب ہو۔ غذا کی تقسیم کو کسی تنظیم کے انتخابی حلقے تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔

(c) غذا کی تقسیم کسی سیاسی یا مذہبی سرگرمی کے سلسلے میں برگز نہ کی جائے۔

(d) فراہم کنندہ پر اپنا ہنگامی غذائی پروگرام تحریری شکل میں HRA سے منظور شدہ باقاعدہ اور ہم آہنگ شیڈول پر چلانا ضروری ہے۔

(e) فراہم کنندہ پر HRA کے علاوہ مآخذ سے غذا اور فنڈنگ کے لیے درخواست دینا اور اسے برقرار رکھنا ضروری ہے۔

(f) فراہم کنندہ پر یرتشر اور کفایتی انداز میں غذا کی تقسیم کی سہولت بہم پہنچانے کے لیے معقول وسائل (بشمو غذا، رسد، رضاکاران، جگہ اور تقسیم کے منصوبے) قائم رکھنا ضروری ہے۔

(g) فراہم کنندہ پر خوراک سے متعلق پابندیوں اور ان غذائی الرجیوں کا خیال رکھتے ہوئے جو غذا طلب کرنے والے افراد کے ذریعے فراہم کنندہ کو بتائے گئے ہوں، متوازن، غذائیت بخش کھانے اور غذا کے بیکج فراہم کرنے کے لیے تمام معقول کوششیں کرنا ضروری ہے۔ ممکن حد تک، فراہم کنندہ کو زیر خدمت انتخابی حلقوں کی ثقافتی ترجیحات کو بھی زیر غور رکھنا چاہیے۔

(h) غذا کو HRA کی جانب سے مجاز مقامات پر اور DOHMH کے تقاضوں کے مطابق اسٹور کرنا، تیار کرنا، پیش کرنا اور تقسیم کرنا ضروری ہے۔

(i) فراہم کنندہ غذا کو نجی رہائش، مکان، یا ایارٹمنٹ میں، یا موٹر گاڑی میں برگز بھی اسٹور یا تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ آلا یہ کہ موٹر گاڑی کے پاس نیو یارک اسٹیٹ کے حفظان صحت کے ضابطہ کے بموجب موبائل فوڈ سروس اسٹیبلشمنٹ کے بطور چلانے کا ایک درست پرمٹ ہو۔

(j) غذا کی اختتامی تاریخ سے قبل اسے کلی طور پر غذا کے ضرورت مند افراد کی خدمت انجام دینے کے لیے استعمال کر لینا ضروری ہے، اور اس کی تجارت، اسے فروخت، یا بصورت دیگر اسے ضائع ہو گز نہیں کرنا چاہیے۔

(k) فراہم کنندہ کو غذا کی اختتامی تاریخ سے پہلے اسے تقسیم کر دینا اور اختتامی تاریخ کے مطابق غذا کی تقسیم کو فوقیت دینا ضروری ہے۔ اگر غذا تازہ پیداوار پر مشتمل ہو تو، فراہم کنندہ پر تازہ پیداوار جس طرح موصول ہوئی تھی اسی طرح اور سٹرانڈ پیدا ہونے سے پہلے تقسیم کر دینا ضروری ہے۔ اگر EFAP کی کوئی غذا سٹرا جاتی ہے یا اس کی میعاد ختم ہو جاتی ہے تو، فراہم کنندہ کو اسے ضائع کرنے سے پہلے HRA کو مطلع کرنا ضروری ہے۔

(l) غذا دوسری تنظیموں کو ضمنی طور پر تقسیم ہو گز نہ کی جائے۔

(m) غذا موصول کرنے والے فرد سے یہ درخواست ہو گز نہ کی جائے کہ:

(1) عطیہ کریں؛

(2) غذا کے لیے ادائیگی کریں؛

(3) غذا کے بدلے خدمات کا تبادلہ کریں؛

(4) مذہبی یا سیاسی سرگرمی میں شرکت کریں؛ یا

(5) ہنگامی غذا موصول کرنے کی شرط کے ساتھ، اپنی ضرورت ثابت کرنے کے لیے دستاویزی ثبوت فراہم کریں۔

(n) فراہم کنندہ پر لازم ہے کہ:

(1) EFAP کی ساری غذا کی وصولی اور تقسیم کو ضبط تحریر کرتے ہوئے ریکارڈ برقرار رکھیں۔

(2) EFAP غذا کی تقسیم سے وابستہ تمام لاگتوں کو ضبط تحریر کرتے ہوئے رسیدیں برقرار رکھیں۔

(3) جس کیلنڈر سال سے اس کا تعلق ہے اس سال کے اختتام سے تین سالوں تک تمام ریکارڈ برقرار رکھیں، اور HRA کے اہلکار کے ذریعے ان ریکارڈوں کے معائنہ کی اجازت دیں۔

(4) تقسیم کی سائٹ پر غذا کی وصولی اور تقسیم کے ریکارڈوں کی ایک کاپی برقرار رکھیں۔

(5) چوری، غارتگری، یا دیگر ایمرجنسی کی صورت میں مقامی پولیس اور HRA کو مطلع کریں۔

(6) EFAP غذا موصول اور تقسیم کرنے کے لیے لازمی پرمٹ اور لائسنسز برقرار رکھیں۔

(7) فائل میں IRS کی تصدیق اور اپنا وفاقی آجر کا شناختی نمبر (Employer Identification

Number, EIN) اور ٹیکس سے استثناء کی حالت برقرار رکھیں۔

(o) فراہم کنندہ کے پاس زیر خدمت لوگوں کی تعداد کا حساب کتاب HRA کو قابل قبول ذرائع میں موجود کرنا ضروری ہے۔

(p) فراہم کنندہ پر HRA کی جانب سے متعین کردہ شکل اور انداز میں ایک درست ماہانہ اعداد و شمار کی رپورٹ بشمول زیر خدمت لوگوں کی تعداد کا ماہانہ ڈیٹا اور اس طرح کے دیگر اعداد و شمار کی معلومات جمع کرانا ضروری ہے جیسا کہ HRA درخواست کر سکتا ہے۔

(q) فراہم کنندہ کے کام کرنے کے دن اور گھنٹے 311 کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے، اور فراہم کنندہ پر 311 کی جانب سے سائٹ پر بھیجے گئے کسی فرد کی خدمت انجام دینا ضروری ہے۔

(r) فراہم کنندہ پر اس کے خلاف HRA کو موصول ہونے والی کسی شکایت کا جواب دینا اور فراہم کنندہ کو اس سے مطلع کرنا ضروری ہے۔

(s) فراہم کنندہ پر اس باب کے تحت حسب مطلوب HRA کے اہلکار کے ذریعے سائٹ کے دوروں کی اجازت دینا ضروری ہے۔

(t) فراہم کنندہ پر تکملاتی تغذیاتی اعانت پروگرام (یا جانیشیں پروگرام) کے سلسلے میں HRA کو قابل قبول شکل اور انداز میں رسائی فراہم کرنا ضروری ہے۔

(u) فراہم کنندہ پر کسی عارضی یا مستقل بندش سے قبل یا کام کرنے کے دن اور گھنٹے میں یا غذا جس جگہ اسٹور یا تقسیم کی جائے گی اس کے مقام میں کسی تبدیلی سے HRA کو مطلع کرنا یا اس سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہے۔ فراہم کنندہ پر رابطے میں کسی تبدیلی سے بھی بروقت انداز میں HRA کو مطلع کرنا ضروری ہے۔

(v) فراہم کنندہ کو اس باب کے تحت موصولہ انتظامی فنڈز کو ایسے اخراجات کے ضمن میں برگز بھی استعمال نہیں کرنا ہے جس کی باز ادائیگی کلی یا جزوی طور پر کسی دیگر ادارے کے ذریعے کر دی گئی ہو۔

(w) فراہم کنندہ اس باب کے تحت موصولہ غذا یا فنڈز کو مخصوص آبادی، جیسے سینئر سنٹرز کو یا غیر رہائشی معالجاتی پروگراموں کو کھانے فراہم کرنے کے لیے کسی سرکاری ٹھیکے کے ذریعے فراہم کردہ فنڈز کی تکمیل کے لیے برگز نہیں استعمال کرنا ہے۔

(x) بصورت دیگر فراہم کنندہ پر EFAP پروگرام کے بندوبست میں HRA کے ساتھ باہمی تعاون کرنا ضروری ہے۔

§ 4-06 غذائی تفویضات اور ترامیم۔

(a) فنڈنگ کی دستیابی کی شرط سے، سال میں کم از کم ایک بار، HRA یا اس کے قائم مقام افراد مصدقہ EFAP غذا فراہم کنندگان کو لائن آف کریڈٹ کی شکل میں غذائی تفویضات کریں گے، جسے فراہم کنندہ HRA کے معاہدہ بند وینڈرز کی جانب سے غذا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ہر فراہم کنندہ کی غذائی تفویض کا

تعیین کرنے میں جن عوامل پر غور کیا جائے گا ان میں کمیونٹی کی ضرورت، فراہم کنندہ کی لیاقت، فراہم کنندہ کی سابق کارکردگی، اور نسلی شمولیت اور برابری شامل ہوں گے۔

(b) HRA عوامل بشمول درج ذیل کی بنیاد پر غذائی تفویضات کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے:

(1) ماہانہ اعداد و شمار کی رپورٹ جمع کرانے میں ناکامی؛

(2) غلط ماہانہ اعداد و شمار کی رپورٹ کی جمع آوری؛

(3) فراہم کنندہ کے EFAP کی حالت متحرک سے آن بولڈ میں تبدیلی؛

(4) فراہم کنندہ کی درخواست کہ اس کی تفویض کم کر دی جائے؛

(5) ان سے ماوراء ہنگامی غذائی ضرورتیں جو EFAP کی جانب سے معمول کے مطابق پوری کرنے کے ارادے ہیں (جیسے، آتش زدگی، ایمرجنسی کی حالت، یا صحت عامہ کی ایمرجنسی سے پیدا شدہ ضرورتیں)؛

(6) EFAP کی فنڈنگ کی کمی؛ یا

(7) آبادیاتی معلومات تبدیل ہونا، تبدیل شدہ آبادیاتی پروجیکشنز، یا کسی مخصوص علاقے کی خدمت انجام دیتے ہوئے غذائی پروگراموں کی دستیابی میں تبدیلیاں۔

(c) EFAP غذا فراہم کنندہ کے بطور تصدیق اس سیکشن کے تحت غذائی تفویض وصول ہونے کی ضمانت نہیں ہے۔

§ 4-07 تقسیم کردہ غذا کے ساتھ وابستہ اخراجات کی باز ادائیگی۔

فنڈنگ کی دستیابی کی شرط کے ساتھ، EFAP HRA پروگرام کے ذریعے موصولہ غذا فراہم کرنے کی معقول لاگتوں کے مدنظر EFAP کو باز ادائیگی کر سکتا ہے، بشرطیکہ فراہم کنندہ کو تب EFAP سے فنڈ ملا تھا جب اس طرح کی لاگتیں آئی تھیں، جس میں بوٹیلیٹیز؛ غذا کی تقسیم، اسٹوریج اور تیاری سے تعلق رکھنے والے ایکویمنٹ؛ غذائی سروس کے پروڈکٹس؛ مرمتیں؛ اور اہلکار شامل ہیں۔ غذا فراہم کنندگان HRA کے ذریعے متعین کردہ وقت پر اور انداز میں اس طرح کی باز ادائیگیوں لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ غذا فراہم کنندگان ایسے اخراجات کے لیے فنڈنگ کی درخواست نہیں دے سکتے جن کا احاطہ پہلے ہی فنڈنگ کے دوسرے ماخذ کے ذریعے ہو گیا ہے۔

§ 4-08 لیاقت سازی کی گرانٹس۔

فنڈنگ کی دستیابی کی شرط کے ساتھ، HRA اپنی صوابدید پر اپنے ہنگامی غذائی پروگراموں کی توسیع کے خواہاں مصدقہ EFAP کے غذا فراہم کنندگان کو، یا ہنگامی غذائی پروگراموں کو تشکیل دینے کی خواہاں غیر منفعتی تنظیموں کو گرانٹ فراہم کر سکتا ہے جن سے اس باب کے تقاضے پورے ہوں گے۔

§ 4-09 غذا فراہم کنندگان کی نگرانی اور سالانہ تصدیق نو کا جائزہ۔

تصدیق برقرار رکھنے کے لیے، مصدقہ EFAP کے غذا فراہم کنندگان پر پروگرام کے تقاضوں کی ٹھوس تعمیل میں رہنا اور HRA کے سالانہ دوبارہ تصدیق کے جائزے میں پاس ہونا ضروری ہے۔ سالانہ دوبارہ تصدیق کا جائزہ اس باب کے تحت غذائی تفویضات موصول کرنے والے فراہم کنندگان کے پاس کم از کم سال میں ایک بار سائٹ کے ایک دورے پر مشتمل ہوگا۔ اگر HRA یہ تعین کرتا ہے کہ فراہم کنندہ پروگرام کے تقاضوں کی ٹھوس تعمیل نہیں کرتا ہے تو، HRA اس فراہم کنندہ کی غذائی تفویض کم، معطل، یا ختم کر سکتا ہے یا EFAP کے غذائی فراہم کنندہ کی اپنی تصدیق کو منسوخ کر سکتا ہے۔ فراہم کنندہ کی غذائی تفویض کو کم، معطل، یا ختم کرنے یا EFAP کے غذائی فراہم کنندہ کی اپنی تصدیق کو منسوخ کرنے سے پہلے، HRA اس فراہم کنندہ کو ایک نوٹس، اور فراہم کنندہ کو تحریری شکل میں اعتراض کرنے کا ایک موقع فراہم کرے گا۔

§ 4-10 منسوخ شدہ غذائی فراہم کنندہ کی تصدیق کی بحالی۔

جس غذائی فراہم کنندہ کی EFAP کی غذائی فراہم کنندہ کی تصدیق سیکشن 4-09 کے بموجب منسوخ کر دی گئی ہے وہ HRA کے ذریعے متعین کردہ شکل اور انداز میں یہ ثابت کر کے اس طرح کی تصدیق کی بحالی کی درخواست کر سکتا ہے کہ اگر اس طرح کی تصدیق بحال ہو جاتی ہے تو فراہم کنندہ پروگرام کے تقاضوں کی تعمیل کرے گا۔

NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT
DIVISION OF LEGAL COUNSEL
CHURCH STREET 100
NEW YORK, NY 10007
212-356-4028

تصدیق بموجب

چارٹر §1043(d)

اصول کا عنوان: ہنگامی غذائی اعانت پروگرام (Emergency Food Assistance Program) پر نافذ العمل اصول

حوالہ نمبر: RG 038 2021

اصول ساز ایجنسی: ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن (Human Resources Administration)

میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ دفتر ہذا نے نیو یارک سٹی کے منشور کے سیکشن 1043(d) کے ذریعے مطلوب محولہ بالا مجوزہ اصول کا جائزہ لے لیا ہے اور یہ کہ محولہ بالا مجوزہ اصول:

- (i) اس طرح سے تیار کیا گیا ہے جو قانون کے التزامات کو مجاز بنانے کے مقصد کی تکمیل کرتا ہے؛
- (ii) دیگر قابل اطلاق قوانین کے ساتھ متصادم نہیں ہے؛
- (iii) قابل عمل اور مناسب حد تک، اپنے بیان کردہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محتاط انداز میں تیار کیا گیا ہے؛ اور
- (iv) قابل عمل اور مناسب حد تک، بنیاد اور مقصد کے بیان پر مشتمل ہے جو اصول کی دو ٹوک وضاحت اور اصول کی جانب سے عائد کردہ تقاضے فراہم کرتا ہے۔

تاریخ: 1 اپریل 2022

/s/ STEVEN GOULDEN
کارگزار کارپوریشن قونسل (Acting Corporation Counsel)

نیو یارک شہر کے ناظم کا دفتر برائے عملی معاملات (NEW YORK CITY MAYOR'S OFFICE OF)
(OPERATIONS)
BROADWAY, 10th FLOOR 253
NEW YORK, NY 10007
212-788-1400

تصدیق / تجزیہ
منشور کے سیکشن 1043(d) کے مطابق

اصول کا عنوان: ہنگامی غذائی اعانت پروگرام (Emergency Food Assistance Program) پر نافذ العمل اصول

حوالہ نمبر: HRA-31

اصول ساز ایجنسی: ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن (Human Resources Administration)

میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ دفتر ہذا نے نیو یارک سٹی کے منشور کے سیکشن 1043(d) کے ذریعے
مطلوب محولہ بالا مجوزہ اصول کا تجزیہ کر لیا ہے اور یہ کہ محولہ بالا مجوزہ اصول:

- (i) قابل فہم ہے اور مجرد منضبط کمیونٹی یا کمیونٹیز کے لیے سادہ زبان میں لکھا گیا ہے؛
- (ii) اصول کے بیان کردہ مقصد کو حاصل کرنے کے مطابق مجرد باقاعدہ کمیونٹی یا کمیونٹیز کے لیے
تعمیل کے اخراجات کو کم کرتا ہے؛ اور
- (iii) کوئی تدارکی عرصہ فراہم نہیں کرتا ہے کیونکہ اس سے کسی خلاف ورزی کا ارتکاب، خلاف ورزی
میں ردوبدل، یا خلاف ورزی کے ساتھ وابستہ جرمانوں میں ردوبدل نہیں ہوتا ہے۔

تاریخ 2 جون 2022

s/ Francisco X. Navarro/
میئر آفس آف آپریشنز (Mayor's Office of Operations)